

## Exercise 2

جب میں نے گل میں قدم رکھا تو میرا آدھی رات کا وقت تھا۔ ہوا میں شدید ٹھنکی تھی۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور سبزی مائل پہلے پس  
نے صوبہ صحت سڑک پر 200، 200 تک لہتی تھی۔ اگلا آدھی اور اور کھائی دے رہا تھا۔ اور کئی کئی پلے کے پار سمندر کی  
طرف گھروں کی راہ پر گاجران تھا سائروں کے قدموں کی ہاپ کو ٹھنکی تھی۔ میں نے اپنے اور کوٹ لاکار اوپر کر لیا۔

## Exercise 3

## Exercise # 2

It was almost midnight when  
I stepped into the street.  
There was a cold nip in  
the air. The sky was filled  
with stars, and greenish and  
yellow lamp spread its light  
across the smooth road. A  
small number of people were  
seen, here and there. And  
the steps of solitary/alone  
people were heard from the  
houses beside the sea. I  
turned up the collar of my  
overcoat.

### **Example 8.4**

Consider another example:

“What is a home without children. It is like a summer day without sunshine, a man without a smile. We want an excuse to play, a justification for doing foolish things and romping about as if we were not serious men and women and the games and laughter and high spirits of children give us the justification we need. They bring sunshine into our lives, for they are a ceaseless fount of merriment, dissolvers of care, deniers of boredom.”



### Example 8.4

Children make our lives better.

Precis:

Children are an essential part of our homes. They give us reasons of pleasure and spirits of naive. They make our lives shiny and joyful.

Total words:

79

Precis words:

25